

-1
 جنگلات کی کٹائی جنگل میں درختوں کی بڑی تعداد میں کٹائی ہے۔
 جنگلات کی کٹائی ہمیشہ سے ہمارے ماحول کے لئے خطرہ رہی ہے۔
 لیکن پھر بھی بہت سے انسان اس غلط پریکٹس کو جاری رکھے
 ہوئے ہیں۔ مزید یہ کہ جنگلات کی کٹائی ماحول پر مبنی عدم توازن کا
 باعث بن رہی ہے۔ پھر بھی کچھ خود غرض لوگوں کو اپنی جیبیں بھری
 بڑتی ہیں۔ اس لئے وہ اس کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچتی
 لہذا، صحیح حکومت ماحول کو، پہنچنے والے نقصان کو روکنے کے لئے
 جو اپنی اقدامات کر رہی ہے۔

Deforestation is the cutting of a large number of trees in forests. Deforestation has always been a threat to our environment. But still most of the people are doing this wrong practice. Moreover, deforestation is engendering environmental imbalance. Nonetheless, some selfish people have to feather their nest. That's why they do not give it a thought. Therefore, government is taking counter measures to avoid environmental damage.

-2
 زمین کی آلودگی بہت سے مختلف عوامل کی وجہ سے ہے جو بالآخر زمین
 کو آلودہ کرتی ہے۔ زمین کی آلودگی کی کچھ وجوہات میں کھوپڑے مار
 ادویات کا استعمال، گھوس غفلت، جنگلات کی کٹائی، بڑھتی ہوئی
 شہر کاری، تیز رفتاری بارشیں اور کان کنی کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ ان
 میں سے بہت سے ماحول پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ گھوس غفلت زیادہ تر اسی
 مہموں سے متعلق ہوتا ہے جو ناقابل تحلیل ہوتی ہیں اور ان کو
 گھسانے لگانا مشکل ہوتا ہے۔ مزید برآں، یہ سرگرمیاں نہ صرف
 مٹی کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ مختلف جانداروں اور جانوروں کے
 انفیکشن اور بیماریوں کی وجہ سے بھی بنتی ہیں۔

There are several ^{causes} factors of land pollution which ultimately befalls the Earth

2. Some of the causes of land pollution include the use of insecticides, solid wastes, deforestation, growing urbanization, acid rains and making mines. Most of these causes ~~badly~~ negatively affect the environment. Solid wastes mostly consist of the indissoluble products which are difficult to settle down. Furthermore, these activities not only damage the soil but also cause different infections and diseases of humans and animals.

3- کھیل یقیناً خود اعتمادی پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کھیل کھیلنا مناسب طریقے سے یارت کرنے کا اعتماد بڑھاتا ہے۔ ایک کھیل یقینی طور پر دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی مہارت کو بہتر بناتا ہے۔ مزید برآں، شخص بچنے، کھڑے ہونے اور صحیح طریقے سے چلنے میں اعتماد کا تجربہ کرتا ہے۔ لہذا، کھیل ایک فرد کی سماجی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ کھیل زندگی میں نظم و ضبط لاتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر لگن اور مہارتی اقدار سکھاتا ہے۔ کھیل لوگوں کو ناگہانی سے نیندنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ مزید برآں، کھیلوں میں شیڈول پر عمل کرنے کی اہمیت بھی موجود ہے۔

2. Undoubtedly, sports ~~are~~ is a source of self-belief. Sports improves articulatory. Certainly, sports ameliorates communication skill. Moreover, a person gets confidence to sit, stand and walk properly. Hence, sports improves the social life of a person. Sports bring discipline in life. Definitely, it teaches the values of devotion and patience. Sport teaches how to face failure. Furthermore, sports tell about the importance of following a schedule.

-4 اس قسم کے بعد بوڑھا آدمی واضح طور پر غصیل ہو گیا، وہ خدا کو تلاش نہ کر پایا تھا اور بدلے میں ملنے والی غیر طمانیت کی وجہ سے وہ کتنی بار بد اخلاقی ہو گیا، نوجوان اس پہاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ زیادہ دیر تک نہیں گئے، یہوں گے کہ انہیں کچھ خاصا بر کوئی عکس نظر آیا۔ اب سر جڑ سے لے کر واضح نظر آرہی تھی۔

The old man definitely got angry after this campaign. He could not find God and was vile many times due to the discontentment. The young man took him towards mountain. They were not at a long distance when they saw a shadow. Everything was unambiguous now.